

# Job

## Chapter 10

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

1	נִקְטָה	נִפְשִׁי	בְּחַיִּי	אֶעֱזֹבָה	עָלַי	שִׁחִי	אֲדַבְּרָה	בְּמִר	נִפְשִׁי:
	بیزار-بے	میری-جان	اپنی-زندگی-سے	چھوڑ-دوں-گا	اپنے-اوپر	اپنی-شکایت	بولوں-گا	تلخی-میں	اپنی-جان-کی
	<a href="#">H5354</a>	<a href="#">H5315</a>				<a href="#">H7879</a>	<a href="#">H1696</a>	<a href="#">H4751</a>	<a href="#">H5315</a>

گا۔ کروں بیان غم دلی اپنا پر طور کھلے گا، کروں زاری و آہ سے آزادی میں ہے۔ آتی گھن سے جان اپنی مجھے

2	אֲמַר	אֶל-	אֱלֹהִים	אֶל-	תְּרַשְׁעֵנִי	הוֹדִיעֵנִי	עַל	מִדָּ-	תְּרִיבֵנִי:
	کہوں-گا	کی-طرف	خدا	نہ	مجرم-ٹھہرا-مجھے	بتا-مجھے	کس	کیا	جھگڑا-کرتا-ہے-مجھ-سے-ٹو
	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H0433</a>	<a href="#">H0408</a>	<a href="#">H7561</a>	<a href="#">H3045</a>		<a href="#">H4100</a>	<a href="#">H7378</a>

ہے۔ الزام کیا پر مجھ تیرا کہ بتا بلکہ ٹھہرا نہ مجرم مجھے کہ گا کہوں سے اللہ میں

3	הַטּוֹב	וְאֵל-	וְעַל-	עֲצָת	כִּי-	תִּעֲשֶׂךָ	כִּי-	תִּמְאַס	יָנִיעַ	כַּפִּיךָ	וְעַל-	עֲצָת
	کیا-اچھا-ہے	تیرے-لیے	کہ	ظلم-کرے	کہ	حقیر-جانے	محنت	اپنے-باتھوں-کی	اور-اوپر	مشورے		
				<a href="#">H6231</a>		<a href="#">H3018</a>		<a href="#">H3709</a>		<a href="#">H6098</a>		

הַטּוֹב: הוֹפְעֵת: שְׂרִירֹת-כֵּה שְׂרִירֹת-כֵּה

[H3313](#)

[H7563](#)

اپنی پر منصوبوں کے بے دینوں ٹو ساتھ ساتھ بنایا؟ مجھے نے باتھوں ہی اپنے تیرے حالانکہ بے کرتا محسوس خوشی میں کرنے رد مجھے کے کر ظلم ٹو کیا ہے؟ لگتا اچھا تجھے یہ کیا ہے۔ چمکاتا نور کا منظوری

4	הַיְיָ	בֶּשֶׂר	לֵךְ	אִם-	כִּי-	אֲנֹשׁ	תִּרְאֶה:
	کیا-آنکھیں	گوشت-کی	تیری-ہیں	کیا	دیکھنے-کی-طرح	انسان	دیکھتا-ہے-ٹو
		<a href="#">H1320</a>			<a href="#">H7200</a>	<a href="#">H0582</a>	<a href="#">H7200</a>

ہے؟ دیکھتا سے نظر سی کی انسان صرف ٹو کیا ہیں؟ انسانی آنکھیں تیری کیا

5	הַכִּימִי	אֲנֹשׁ	יָמִיךָ	אִם-	שְׂנוֹתֶיךָ	כִּימִי	נִכְר:
	کیا-دنوں-کی-طرح	انسان-کے	تیرے-دن-ہیں	یا	تیرے-برس	دنوں-کی-طرح	مرد-کے
	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H0582</a>	<a href="#">H3117</a>		<a href="#">H8141</a>	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H1397</a>

نہیں! برگز ہیں؟ محدود جیسے انسان فانی سال اور دن تیرے کیا

6	כִּי-	תִּבְקֶשׁ	לְעֹנִי	וְלַחֲטָאתִי	תִּדְרֹשׁ:
	کہ	ڈھونڈتا-ہے-ٹو	میری-بدکاری-کو	اور-میرے-گناہ-کو	تلاش-کرتا-ہے
		<a href="#">H1245</a>	<a href="#">H5771</a>		<a href="#">H1875</a>

رہے؟ کرتا تحقیق کی گناہ میرے اور تلاش کی قصور میرے ٹو کہ ہے ضرورت کیا پھر تو

7	עַל-	דַּעְתְּךָ	כִּי-	לֹא	אֲרָשֶׁע	וְאִין	מִדָּ:
	تیرے	علم-پر	کہ	نہیں	شریر-ہوں	اور-نہیں-ہے	تیرے-باتھ-سے
		<a href="#">H1847</a>		<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H7561</a>	<a href="#">H0369</a>	<a href="#">H5337</a>

سکتا۔ نہیں بچا کوئی سے ہاتھ تیرے کہ اور ہوں بے قصور میں کہ ہے جانتا تو ٹو

8	יָדֶיךָ	עֲצָבוֹנִי	וַיַּעֲשׂוּנִי	יָחַד	סָבִיב	וְתִבְלַעֵנִי:
	تیرے-باتھوں-نے	بنایا-مجھے	اور-تشکیل-دیا-مجھے	اکٹھے	چاروں-طرف-سے	اور-نگلتا-ہے-مجھے
	<a href="#">H3027</a>				<a href="#">H5439</a>	<a href="#">H1104</a>

ہے۔ دیا کر تباہ مجھے کر مڑنے ٹو اب اور بنایا۔ کر دے تشکیل مجھے نے باتھوں اپنے تیرے

9	זָכַרְתִּי	נָא	כִּי	כַחֲמֹר	עֲשִׂיתִנִּי	וְאֶל־	עָפָר	תְּשִׁיבֵנִי:
	یاد-رکھ	مہربانی-سے	کہ	مٹی-کی طرح	بنایا-ہے-ٹو-نے-مجھے	اور-کی طرف	خاک-میں	لوٹائے-گا-مجھے
	<a href="#">H2142</a>	<a href="#">H4994</a>			<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H6083</a>	<a href="#">H725</a>	

ہے۔ رہا کر تبدیل میں خاک دوبارہ مجھے ٹو اب بنایا۔ سے مٹی مجھے نے ٹو کہ رکھ خیال کا اس ذرا

10	הֲלֹא	דָּחַלְתִּי	תִּתִּיבֵנִי	אֶכְבְּדֶנָּה	תִּקְפִּיאוּנִי:
	کیا-نہیں	دودھ-کی طرح	بھایا-ہے-ٹو-نے-مجھے	اور-پنیر-کی طرح	جمایا-ہے-ٹو-نے-مجھے
	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H2461</a>	<a href="#">H5413</a>	<a href="#">H1385</a>	

دیا۔ جمنے طرح کی پنیر کر اُنڈیل طرح کی دودھ مجھے خود نے ٹو

11	עֹזֶר	וּבֶשֶׂר	תִּלְבִּישֵׁנִי	וּבַעֲצָמוֹת	אֲנִידִים	תִּסְכְּכֵנִי:
	کھال	اور-گوشت	پھنایا-ہے-ٹو-نے-مجھے	اور-ہڈیوں-سے	اور-پٹھوں-سے	بنایا-ہے-ٹو-نے-مجھے
	<a href="#">H5785</a>	<a href="#">H1320</a>	<a href="#">H3847</a>	<a href="#">H6106</a>	<a href="#">H1517</a>	

کیا۔ تیار سے نسوں اور ہڈیوں کیا، ملبس سے پوست گوشت اور جلد مجھے نے ہی ٹو

12	חַיִּים	וְחֶסֶד	עֲשִׂיתָ	עִמָּדִי	אֶפְקֹדֶתְךָ	שְׁמֹרָה	רוּחִי:
	زندگی	اور-شفقت	دی-ہے-ٹو-نے	میرے-ساتھ	اور-تیری-نگہبانی	بچایا-ہے	میری-روح-کو
			<a href="#">H5978</a>	<a href="#">H6486</a>	<a href="#">H8104</a>	<a href="#">H7307</a>	

رکھا۔ محفوظ کو روح میری نے بھال دیکھ تیری اور نوازا، سے مہربانی اپنی اور زندگی مجھے نے ہی ٹو

13	וְאֶלֶּה	צַפְנֹתַי	בְּלִבִּיךָ	אֲדַעֲתִי	כִּי	זֹאת	עִמָּדִי:
	اور-یہ-باتیں	چھپایا-ہے-ٹو-نے	اپنے-دل-میں	جانتا-ہوں	کہ	یہ	تیرے-ساتھ-ہے
	<a href="#">H0428</a>	<a href="#">H6845</a>	<a href="#">H3824</a>	<a href="#">H3045</a>		<a href="#">H2063</a>	

ہے۔ گیا ہو معلوم ارادہ تیرا مجھے ہاں رکھی، چھپائے میں دل اپنے نے ٹو بات ایک لیکن

14	אִם־	חֲטָאתִי	וּשְׁמֹרְתִנִּי	אֲמַעֲזֵנִי	לֹא	תִּנְקֵנִי:
	اگر	گناہ-کروں	اور-نگرانی-کرتا-ہے-ٹو-مجھے	اور-میری-بدکاری-سے	نہیں	ہے-قصور-ٹھہرائے-گا-مجھے
		<a href="#">H2398</a>	<a href="#">H8104</a>	<a href="#">H5771</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H5352</a>

گا۔ کروں نہیں بری سے قصور کے اُس اُسے مَیں گا۔ کروں داری پہرا کی اُس مَیں تو کرے گناہ ایوب ۱۱ اگر کہ ہے یہ وہ

15	אִם־	רָשָׁעִי	אֶלְלִי	לִי	וְצַדִּיקִי	לֹא	אֶשָּׂא	רֵאשִׁי	שָׁבַע	קָלוּן	וּרְאָה
	اگر	شریر-ہوں	افسوس	مجھ-پر	اور-راستباز-ہوں	نہیں	اٹھاؤں-گا	اپنا-سر	بھرا-ہوا	رسوائی-سے	اور-دیکھ
		<a href="#">H7561</a>	<a href="#">H0480</a>	<a href="#">H6663</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H5375</a>	<a href="#">H7649</a>	<a href="#">H7036</a>	<a href="#">H7202</a>		

عَیְנֵי:

میری-مصیبت  
[H6040](#)

ہو سیر کر کھا کھا شرم مَیں کیونکہ کرتا، نہیں جرأت کی اُٹھانے سر اپنا مَیں تاہم ہوں بھی ہے گناہ مَیں اگر اور افسوس! پر مجھ تو ہوں قصوروار مَیں اگر ہے۔ گئی پلائی مصیبت خوب مجھے ہوں۔ گیا

16	וַיִּנְאֶה	כַּשְׁחֹל	תְּצוּרֵנִי	וְתִשָּׁב	תַּחֲפֹלֶא	כִּי:
	اور-سر-اٹھاتا-ہوں	شیر-کی طرح	شکار-کرتا-ہے-مجھے	اور-بھر	عجیب-کام-کرتا-ہے	مجھ-میں
	<a href="#">H1342</a>	<a href="#">H7826</a>	<a href="#">H7725</a>	<a href="#">H6381</a>		

ہے۔ کرتا اظہار کا قدرت معجزانہ اپنی دوبارہ پر مجھ اور کرتا شکار میرا طرح کی شیربیر ٹو تو جاؤں ہو بھی کھڑا مَیں اگر اور

17	תַּחֲרֹשׁ	וְעֵדִיךָ	נִדְרֵי	וְתִרְב	כַּעֲשָׂךָ	עִמָּדִי	חֲלִיפוֹת	וְצַבֵּא	עִמִּי:
	نیا-کرتا-ہے	اپنے-گواہ	میرے-خلاف	اور-بڑھاتا-ہے	اپنا-غضب	میرے-خلاف	تبدیلیاں	اور-لشکر	میرے-خلاف
	<a href="#">H2318</a>	<a href="#">H5707</a>	<a href="#">H5048</a>	<a href="#">H5978</a>	<a href="#">H2487</a>				

ہیں۔ کرتے حملہ پر مجھ صاف صاف لشکر تیرے ہے، کرتا اضافہ میں غضب اپنے پر مجھ اور کرتا کھڑا کو گواہوں نئے خلاف میرے تو

18	וְלָמָּה	מָרְחָם	הִצִּיאֲתָנִי	אֲנִינֵע	וְעֵינַי	לֹא	תִּרְאֵנִי:
	اور-کیوں	رحم-سے	نکالا-ہے-تُو-نے-مجھے	فوت-ہو-جاتا	اور-آنکھ	نہ	دیکھتی-مجھے
	<a href="#">H4100</a>	<a href="#">H7358</a>	<a href="#">H3318</a>	<a href="#">H1478</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H7200</a>	

آتا۔ نہ نظر کو کسی اور جاتا مر وقت اسی میں کہ ہوتا بہتر لایا؟ نکال کیوں سے پیٹ کے ماں میری مجھے تو

19	כְּאִשֶּׁר	לֹא	הִייתי	אֶהיה	מִכֶּשֶׁן	לְקַבֵּר	אוֹבֵל:
	گویا	نہیں	تھا-میں	ہوتا	پیٹ-سے	قبر-تک	لے-جایا-جاتا
	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H0990</a>	<a href="#">H6913</a>	<a href="#">H2986</a>

جاتا۔ پہنچایا میں قبر سے پیٹ کے ماں سیدھا مجھے تھا، نہ ہی زندہ کبھی میں جیسا ہوتا یوں

20	הֲלֹא	מַעֲט	יָמֵי	אֶחָדָן	(אֶחָדָן)	(אֶחָדָן)	מִנֵּי	וְאֶבְלִינָה	מַעֲט:
	کیا-نہیں	تھوڑے	میرے-دن	رک	اور-رک-جا	رکھ	اور-رکھ	اور-چین-اُٹے	تھوڑا
	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H4592</a>	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H2308</a>	<a href="#">H2308</a>	<a href="#">H7896</a>	<a href="#">H7896</a>	<a href="#">H1082</a>	<a href="#">H4592</a>

سکوں، ہو خوش لئے کے لمحوں ایک چند میں تاکہ لے پھیر منہ اپنا سے مجھ چھوڑا! تنہا مجھے ہیں؟ نہیں تھوڑے دن میرے کیا

21	בְּטָרִם	אֶלָּה	וְלֹא	אֲשׁוּב	אֶל-	אֶרֶץ	חֲשׂוּדָה	וְצִלְמוֹת:
	پہلے	جاؤں	اور-نہیں	لوٹوں-گا	کی-طرف	سرزمین	اندھیرے-کی	اور-موت-کے-سایے-کی
	<a href="#">H2962</a>	<a href="#">H3212</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H7725</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H2822</a>	<a href="#">H6757</a>

ہیں۔ رہتے سائے گھنے اور تاریکی میں جس میں ملک اُس آتا، نہیں واپس کوئی سے جہاں بے جانا وہاں کے کر کوچ مجھے ہی جلد کیونکہ

22	אֶרֶץ	יעִיפֹתָה	כְּמוֹ	אֶפְלָ	צִלְמוֹת	וְלֹא	סְדָרִים	וְתַפֵּע	כְּמוֹ-	אֶפְלָ:
	سرزمین	تاریکی-کی	جیسے	تاریکی	موت-کا-سایہ	اور-بغیر	نظم-کے	اور-چمکتی-ہے	جیسے	اندھیرا
	<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H5890</a>	<a href="#">H3644</a>	<a href="#">H0652</a>	<a href="#">H6757</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H5468</a>	<a href="#">H3313</a>	<a href="#">H3644</a>	<a href="#">H0652</a>

ہے۔ [بی اندھیرا بھی روشنی وہاں ہے۔ بے ترتیبی اور سائے گھنے میں اُس ہے، کالا ہی کالا اور اندھیرا ہی اندھیرا ملک وہ